



**THE**  
**SENATE OF PAKISTAN**  
**DEBATES:**

---

*OFFICIAL REPORT*

---

Monday, August 30, 1976

---


**CONTENTS**

	PAGES
Obituary Reference <i>Re</i> : Sad demise of Mr. Zulfiqar Ali Bajwa, M.N.A.— <i>Condolence resolution passed and Fateha offered</i> .. .. .	165—166

---

PRINTED BY THE MANAGER, PRINTING CORPORATION OF PAKISTAN PRESS, KARACHI  
PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, KARACHI : 1977

Price : Paisa 50



SENATE DEBATES

SENATE OF PAKISTAN

Monday, August 30, 1976

The Senate of Pakistan met in the Senate Chamber (State Bank Building), Islamabad, at four of the clock in the evening, Mr. Deputy Chairman (Mr. Tahir Mohammad Khan) in the Chair.

(Recitation from the Holy Qur'an)

OBITUARY REFERENCE *RE* : SAD DEMISE OF MR. ZULFIQAR ALI  
BAJWA, MNA

**Rao Abdus Sattar** (Leader of the House) : Mr. Deputy Chairman, Sir, with your permission I want to move a condolence resolution.

**Mr. Deputy Chairman** : Yes.

**Rao Abdus Sattar** : This House places on record its deep sense of sorrow and grief at the sad demise of Mr. Zulfiqar Ali Bajwa, Member of Parliament and resolves that its heart-felt condolences be conveyed to the members of Mr. Bajwa's family. May God Almighty give courage and patience to the members of the bereaved family to bear this loss with fortitude, and may God rest his soul in peace.

**Mr. Deputy Chairman** : Yes, Khawaja Sahib !

خواجہ محمد صفدر (قائد حزب اختلاف) : جناب چیئرمین ! میں اس قرار داد کی دلی طور پر تائید کرتا ہوں - میں محترم باجوہ سے بہت شناسا نہ تھا - ابھی حال ہی میں ایک ملاقات ہوئی تھی لیکن میں نے انہیں ایک نہایت شریف النفس انسان پایا - جب کسی دوست

[Khawaja Mohammad Safdar]

نے ان کی موت کی خبر سنی اس نے یہ ضرور کہا کہ ایک شریف انسان اس دنیا سے اٹھ گیا - وہ کم گو تھے - وہ کسی کو دکھ نہ دیتے تھے - یقیناً جانئیے کہ مختصر سی علالت کے بعد وفات پا جانے پر بڑا دکھ ہوا - اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انکے گناہوں کو معاف کرے - اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے نیز ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے - میں یہ درخواست کروں گا کہ سینٹ کا یہ ریزولیشن ان کے ورثاء تک پہنچا دیا جائے -

جناب ڈپٹی چیئرمین : میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے جذبات میں شمولیت کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کی موت سے ہماری پارلیمنٹریئرینز کی برادری معزز اور شریف النفس راست گو انسان سے محروم ہو گئی - اس میں شک نہیں کہ ہر شخص کو مرنا ہے لیکن بعض لوگوں کے مرنے سے یقیناً محسوس ہوتا ہے کہ ان کے مرنے سے ایک کئی واقع ہوئی ہے اس حیثیت کے لوگ بہت کم اس مادی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ نہایت شریف النفس انسان تھے - پیشتر اس کے ہم سینٹ کا اجلاس برخاست کریں - میں آپ سے استدعا کرونگا کہ فاتحہ خوانی کریں -

(اس مرحلے پر تمام سینیٹرز صاحبان نے فاتحہ خوانی کی)

جناب ڈپٹی چیئرمین : اس ریزولیشن کو ان کے متعلقین کو بھیجا جائے - سینٹ کا اجلاس برخاست کیا جاتا ہے - اب سینٹ کا اجلاس کل صبح دس بجے دوبارہ ہوگا -

[The House then adjourned to meet again at ten of the clock in the morning on August 31, 1976.]